

شعر ہوتا ہے اب مہینوں میں

... حبیب جالب

شعر ہوتا ہے اب مہینوں میں

زندگی ڈھل گئی مشینوں میں

پیار کی روشنی نہیں ملتی

ان مکانوں میں، ان مکینوں میں

دیکھ کر دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ

سانپ ہوتے ہیں آستینوں میں

قہر کی آنکھ سے نہ دیکھ ان کو
دل دھڑکتے ہیں آہگینوں میں

آسمانوں کی خیر ہو یا رب
اک نیا عزم ہے زمینوں میں

وہ محبت نہیں رہی جالب
ہم صفیروں میں، ہم نشینوں میں

Visit our websites:

www.alkalam.pk -- alkalam.weebly.com